

## المعتل الفاء (مثال)

هُوَ مَا كَانَتْ فَؤُوه حَرْفِ عِلَّةٍ وَهْ جِسْ كَافَاءِ كَلِمَةٍ حَرْفِ عِلْتِ هُوَ سَ "مِثَال" كَهْتَهْ هِيَهْ۔

جِسْ فَعْلِ كَ حَرْفِ اَصْلِي مِيَهْ كُوْنِي حَرْفِ عِلْتِ هُوَ سَ الْمَعْتَلُ كَهْتَهْ هِيَهْ۔ اُوْر كَسِي فَعْلِ كَافَاءِ كَلِمَةٍ اِغْر حَرْفِ عِلْتِ (و، ي) هُو تُوْأَ سَ "مِثَال" كَهْتَهْ هِيَهْ۔

(ع ل ل) الْمَعْتَلُ سَ مِرَادِ بِيَارٍ۔ حَرْفِ عِلْتِ سَ مِرَادِ بِيَارِ حَرْفِ۔

It is the verb that has weak letter as its first radical: You have already learnt that the verb which has a weak letter in its root letters is called المعتل. The verb that has weak letter (و، ي) as its first radical is called مثال.

## المعتل الفاء (مثال)

مثال يائي

مثال واوي

**مثال واوي:** جِسْ كَافَاءِ كَلِمَةٍ "اَو" (و) هُوَ سَ مِثَالِ وَاوِي كَهْتَهْ هِيَهْ۔ قُرْآنِ مِيَهْ مِثَالِ وَاوِي زِيَادَهْ اِسْتِعْمَالِ هُوَ هِيَهْ۔

The verb that has (و) as its first radical is called مثال واوي. In Quran مثال واوي is used more.

وَعَدَ (وَعْدَه كَرْنَا) وَجَلَّ (دُرْنَا) وَسَمَّ (خَوْبِصُورَتِ هُونَا) وَغِيْرَهْ

(to be beautiful)

(to fear)

(to promise)

**مثال يائي:** جِسْ فَعْلِ كَافَاءِ كَلِمَةٍ يَاءِ (ي) هُوَ سَ مِثَالِ يَائِي كَهْتَهْ هِيَهْ مِثَالًا

The verb that has (ي) as its first radical is called مثال يائي.

يَتِيْمَ (يَتِيْمِ هُونَا)

(to be an orphan)

يَسَّرَ (آسَانَ هُونَا)

(to be easy)

يُقِظَ (جَاغْنَا)

(to be awake)

## مطابقت مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں؟

Why Misaal is called Misaal?

آپ جانتے ہیں کہ حرفِ علت کے باعث اکثر کلمات کو ادا کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے عرب علماء نے معتل کا نقل (بوجھ) دور کرنے کے لیے کانٹ چھانٹ اور ردّ و بدل کرنے کا نام تعلیل رکھا ہے۔

**مثال** بھی ایک معتل فعل ہے مگر اس کے ماضی (معلوم اور مجہول) کے صیغوں میں تعلیل نہیں ہوتی۔ ان کو حرفِ علت کے ساتھ صحیح فعل کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو **مثال** کہتے ہیں۔ کہ یہ صحیح کی مانند ہے۔ لیکن مزید فیہ سے ماضی کے چند صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور مثال یائی میں مثال ولوی کی نسبت کم تعلیل ہوتی ہے

You all know that because of weak letters it is not easy to pronounce many words. So Arab scholars use methods of dropping and changing to eliminate the heaviness of معتل verbs. This is called تعلیل. مثال is a معتل verb. But there is no تعلیل for its past (active & passive) forms. They are used with the weak letters like صحیح verbs. That's why it is called مثال, means similar to صحیح. Some past مزید فیہ forms, though, do have the changes. مثال ولوی has less changes than مثال یائی.

## مثال واوی کے تعلیل کے قواعد

### قاعدہ نمبر 1

مثال واوی اگر باب "صَوَّبَ، فَتَحَ، حَسِبَ" سے ہو اس کے مضارع معلوم میں "واو" (فاء کلمہ) گرا دیا جاتا ہے۔

If مثال واوی is from صَوَّبَ، فَتَحَ، حَسِبَ patterns, then (و), the first radical, from its مضارع (active) is dropped.

to promise	(وعدہ کرنا)	يَعِدُ ←	يُوعِدُ ←	وَعَدَ	يَضْرِبُ
grant	(عطا کرنا)	يَهَبُ ←	يُؤَهَبُ ←	وَهَبَ	يَفْتَحُ

## قاعدة نمبر 2

مثال ولوی اگر باب "تسمع، مگرم" سے ہو تو اس کے مضارع معلوم میں "واو" (فاء کلمہ) برقرار رہتا ہے۔

If مثال ولوی is from تسمع, مگرم patterns then (و), the first radical, from its مضارع (active) is not dropped.

to be afraid of	(ڈر لگنا)	يُوجَلُّ ←	وَجَلَّ ←	يَسْمَعُ ←	سَمِعَ
to be alone	(اکیلا ہونا)	يُوْحَدُّ ←	وَوَحَدَّ ←	يَكْرُمُ ←	كُرِمَ

## استثناء (Exception)

باب تسمع کے دو افعال خلاف قاعدہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو نوٹ کر لیں۔

Two of the verbs from تسمع pattern are used against the above rule.

to be vast	(وسیع ہونا)	يَسْعُ ←	يُوسِعُ ←	وَسِعَ	
to trample	(رونڈنا)	يَطَأُ ←	يَطِئُ ←	يُوطِئُ ←	وِطِئَ

## مثال ووى فعل امر

مثال ووى سے امر بنانے كا طريقه بالكل صحيح فعل كى طرح ہے۔ علامت مضارع گرا كر لام كلمه ساكن كر ديں گے۔

مضارع فعل from مثال ووى is formed in the same way as that of a فعل صحيح. Make لام كلمه (third radical) ساكن after chopping off the sign of فعل امر.

وَضَعَ ← تَضَع ← تَضَع ← ضَع (تور كھ) (You put!)

وَعَدَ ← يَعِد ← يَعِد ← عِد (تو وعده كر) (You promise!)

## خلاصہ

۔ مثال ووى اگر باب "صَبَّ، حَسَب" سے ہو تو مضارع معلوم میں "واو" حذف ہو جائے گا

۔ اگر باب "يَسْمَعُ يا مَكْرَم" سے ہو تو حذف نہیں ہوگا

۔ ليكن اگر باب "يَسْمَعُ يَسْمَعُ يا فَتَحُ يَفْتَحُ" سے ہو مگر عين يالام كلمه حروف حلقى میں سے ہو تو بھی "واو" حذف ہو جائے گا

Summary: -If مثال ووى is from صَبَّ، حَسَب patterns then in مضارع (active) the و is dropped.

- If مثال ووى is from يَسْمَعُ، مَكْرَم patterns then it is not dropped.

-If it is from pattern يَسْمَعُ يَسْمَعُ or فَتَحُ يَفْتَحُ and the second or the third radical is a حرف حلقى then it is dropped.

Note: In مضارع (passive), the dropped و comes back.

(استثناى كبرى كل ربيى) (Keep the window of Exceptions)